

خولی ئیتا-یا... ئینت-ر میلان شکستی ب- ج-ن-وا ه-نا



ل- خولی ئیتا-یا ئینت-ر میلان ب- دوو گ- ب-رامب-ر ب- گ-گ-ک شکستی ب- ج-ن-وا ه-نا و چوو- پ-ش-نگی ریزب-ندی.

ل- یاریب-کانی ه-فت-ی 15ی خولی ئیتا-یا، ج-ن-وا ل- یاریگای خ-یدا میوانداری ئینت-ر میلانی کرد.

ل- تایمی ی-ک-م، کورانی ئینت-ر باشر بینران و توانیشیان ل- خول-کی ش-ش گ-گ-ک ل- ر-گای بیس-ک-و- ت-مارب-کن، پاش ئ-وش ل- ه-رش-کانیان ب-رد-وامبوون تاو-کو ل- خول-کی 38 گ-گ-ی دوو-میشیان ل- ر-گای لاوتار- مارتین-ز-و- ت-مارکرد و ئ-و تایم-ش ب-و ئ-نجام- ک-تایی پ-هات.

ل- تایمی دوو-م، ئاستی ه-ردوولا ل-ی-ک-و- نزدیک بوو ب-ام ل-گ-گ- ئ-و-ی تا راد-ی-ک ئینت-ر میلان باشر بینرا، کو-انی ج-ن-وا توانیان ل- خول-کی 68 ل-ر-گای فیتینیاو- جیاوازیب-ک- ب- گ-گ-ک ک-مبک-ن-و-، ب-ام ل- ه-و-کانیان ب- ی-کسا نکردن-و-ی ئ-نجام-ک- س-رک-وتوو ن-بوون.

سہرہنجا میس، ٹینتہر میلان بہ دوو گہہ بہرامبہر بہ گہہہک یاریہہکہی بردہوہ و خاہہکانی بہرزکردہوہ
بہ 33 خاہ و ہشہنگی ریزہہندی گرتوہ بہ جیاوازی خاہک لہ ہش میلانی دووہمہوہ.